



## سوال

(121) نماز ضحیٰ کے لئے مسنون وقت

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جو شخص نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھا رہے، کیا اس کے لئے طلوع آفتاب کے وقت ضحیٰ کی دو رکعتیں پڑھنا جائز ہے؟ نماز ضحیٰ کے لئے مسنون وقت کون سا ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ  
الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

نماز ضحیٰ کا وقت سورج کے ایک نیزہ کے بقدر بلند ہونے سے لے کر ظہر سے تھوڑی دیر پہلے و قوف آفتاب تک ہے اور افضل وقت وہ ہے جب دھوپ تیز ہو جائے کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ "اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز کا وقت وہ ہے، جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں دھوپ سے جلنے لگیں۔" (صحیح مسلم) جو شخص مسجد میں ہو اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ جب سورج بلند ہو جائے تو وہ اس وقت دو یا دو سے زیادہ رکعتیں پڑھے۔ جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے (حدیث میں وارد الفاظ ترمض کے معنی دھوپ ک تیز ہونا اور فصال، فضیل کی جمع ہے، اس کے معنی اونٹوں کے بچوں کے ہیں)

## [مقالات و فتاویٰ ابن باز](#)

صفحہ 238

محدث فتویٰ